

# Psa

## Chapter 50

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	מְזִמּוֹר	לְ-אֶסֶף	וְאֵל	אֱלֹהִים	יְהוָה	דָּבַר	וַיִּקְרָא	אֶרֶץ	מִמְזִרְחָהּ	שָׁמֶשׁ	עַד-
	مزمور	ل-آصف	إيل	إلوهيم	يهوواه	بولا	و-بلايا	زمين-كو	من-طلوع	سورج-كے	غد
	<a href="#">H4210</a>	<a href="#">H0623</a>	<a href="#">H0410</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H7121</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H4217</a>	<a href="#">H8121</a>	<a href="#">H5704</a>

مذابو:

غروب-آس-كے

[H3996](#)

بے-بلايا كو دنيا پوري تك آفتاب غروب كر لے سے صبح طلوع نے آس ہے، اُٹھا بول خدا مطلق قادر رب زبور۔ كا آسف

2	מִצִּיּוֹן	מְכַלֵּל-	יָפִי	אֱלֹהִים	הוֹפִיעַ:
	من-صیون	کمال	حُسن-کا	خدا	چمکا
	<a href="#">H6726</a>	<a href="#">H4359</a>	<a href="#">H3308</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3313</a>

بے-اظہار كا حُسن كامل جو سے پہاڑ آس ہے، اُٹھا چمک سے صیون نور كا الله

3	יְבֵא	אֱלֹהֵינוּ	וְאֵל-	יָחֶרֶשׁ	אֵשׁ-	לְפָנָיו	תֹּאכֵל	וְסִבִּיבָיו	נִשְׁעָרָה	מְאֹד:
	آئے-گا	ہمارا-خدا	و-مت	خاموش-رہے	آگ	آس-کے-آگے	بہسم-کرے-گی	و-آس-کے-گرد	طوفان-ہو-گا	بہت
	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H0784</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H5439</a>	<a href="#">H3966</a>	<a href="#">H3966</a>	<a href="#">H3966</a>

بے-رہی چل آندھی تیز گرد ارد کے آس ہے، ربا ہو بہسم کچھ سب آگے آگے کے آس گا۔ رہے نہیں خاموش وہ ہے، ربا آ خدا ہمارا

4	יִקְרָא	אֵל-	הַשָּׁמַיִם	מִזְעַל	וְאֵל-	הָאָרֶץ	לְדִין	עַמּוֹ:
	وہ-پکارے-گا	إل	ہ-آسمانوں-کو	من-اوپر	و-إل	ہ-زمین-کو	ل-عدالت-کرنے	اپنی-قوم-کی
	<a href="#">H7121</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H8064</a>	<a href="#">H5920</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H1777</a>	

گا۔ کروں عدالت کی قوم اپنی میں [اب ہے، دیتا آواز کو زمین و آسمان وہ

5	אֶסְפוּ-	לִי	חֲסִידַי	כִּרְתִּי	בְרִיתִי	עָלִי-	זָבַח:
	جمع-کرو	ل-مجھے	میرے-پاکوں-کو	باندھنے-والے	میرا-عہد	علی	قربانی
	<a href="#">H0622</a>		<a href="#">H2623</a>	<a href="#">H3772</a>	<a href="#">H1285</a>	<a href="#">H2077</a>	

بے- [باندھا عہد ساتھ میرے کے کر پیش قربانیاں نے جنہوں انہیں کرو، جمع حضور میرے کو داروں ایمان میرے

6	וַיְנַדְּרוּ	שָׁמַיִם	צְדָקָן	כִּי-	וְאֱלֹהִים	שֹׁפֵט	הוּא	סִלָּה:
	و-بیان-کرتے-ہیں	آسمان	آس-کی-راستبازی	کیونکہ	خدا	منصف	وہ	سلاہ
	<a href="#">H5046</a>	<a href="#">H8064</a>	<a href="#">H6664</a>		<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H8199</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H5542</a>

(سلاہ) بے۔ والا کرنے انصاف خود اللہ کیونکہ گے، کریں اعلان کا راستی کی آس آسمان

7	שָׁמְעָה	ועַמִּי	וְאֶרְבֵּרָה	יִשְׂרָאֵל	וְאֶעֱיֶדָה	בְּךָ	אֱלֹהִים	אֱלֹהֵיךָ	אֲנֹכִי:
	سنو	میری-قوم	و-میں-بولوں-گا	اسرائیل	و-میں-گوایں-دوں-گا	پ-تجھ-میں	خدا	تیرا-خدا	میں-ہوں
	<a href="#">H8085</a>		<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H3478</a>			<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0595</a>

ہوں-خدا تیرا اللہ میں گا۔ دوں گوایں خلاف تیرے میں اسرائیل، اے دے۔ کرنے بات مجھے سن! قوم، میری [اے

8	לֹא	עָלַי	זָכַרְתִּיךָ	אוֹכִיחֶךָ	וְעוֹלָתֶיךָ	לְפָנָי	תְּמִיד:
	نہیں	پر	تیری-قربانیوں	میں-تجھے-ملامت-کروں-گا	و-تیری-سوختنی-قربانیاں	ل-میرے-سامنے	بمیشہ
	<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H2077</a>	<a href="#">H3198</a>		<a href="#">H5048</a>	<a href="#">H8548</a>

ہیں۔ سامنے میرے مسلسل تو قربانیاں والی ہونے بہسم تیری ربا۔ کر نہیں ملامت باعث کے قربانیوں کی ذبح تیری تجھے میں

9	لَا- نہیں	اَقْرَب- میں-لوں-گا	مَبِيْتَه- من-تیرے-گھر	بَر- بیل	مَمْكَلَاتِي- من-تیرے-باڑوں-سے	عَتَوْدِي- بکرے
	H3808	H3947	H6499	H4356	H6260	

بکرے سے باڑوں تیرے نہ گا، لوں بیل سے گھر تیرے میں نہ

10	כִּי- کیونکہ	לִי- میرے	כָּל- سب	חַיֹּת- جانور	יַעַר- جنگل-کے	בְּהֵמוֹת- مویسی	בְּהַרְרֵי- پہاڑوں-پر	אֶלֶף- ہزار
	H3605	H2042	H0929	H0505				

ہیں۔ بی میرے جانور والے بسنے پر پہاڑیوں ہزاروں ہیں، بی میرے جاندار تمام کے جنگل کیونکہ

11	יָדַעְתִּי- میں-جانتا-ہوں	כָּל- سب	עוֹף- پرندے	הָרִים- پہاڑوں-کے	וְזִי- و-جانور	שָׂדֵי- کھیت-کے	עֲמֻדֵי- میرے-ساتھ
	H3045	H3605	H5775	H2022			H5978

ہے۔ میرا وہ ہے کرتا حرکت میں میدانوں بھی جو اور ہوں، جانتا کو پرندے ہر کے پہاڑوں میں

12	אִם- اگر	אָרְעָב- میں-بھوکا-ہوتا	לֹא- نہیں	אָמַר- میں-کہتا	לִי- مجھے	כִּי- کیونکہ	לִי- میرے	הַגִּבְלָה- دنیا	וְגִבְלֹתֶיהָ- و-اُس-کی-معموری
	H7456	H3808	H0559	H8398				H4393	

ہے۔ میرا ہے پر اُس کچھ جو اور زمین کیونکہ بتاتا، نہ تجھے میں تو لگتی بھوک مجھے اگر

13	הָאוֹכֵל- کیا-میں-کھاؤں-گا	בָּשָׂר- گوشت	אֲבִירִים- بیلوں-کا	וְדָם- و-خون	עֲתוּדִים- بکروں-کا	אֲשֵׁתָהּ- کیا-میں-پیوں-گا
	H0398	H1320	H0047	H1818	H6260	H8354

ہوں؟ چاہتا پینا خون کا بکروں یا کھانا گوشت کا سانڈوں میں کہ ہے سمجھتا تو کیا

14	זָבַח- قربان-کر	לֵאלֹהִים- ل-خدا-کو	תּוֹדָה- شکر	וְשִׁלָּם- و-پوری-کر	לְעֹלִיוֹן- ل-حق-تعالی-کو	נִדְרֶיךָ- اپنی-منتیں
	H2076	H0430	H8426			H5088

ہے۔ مانی حضور کے تعالیٰ اللہ نے تو جو کر پوری منت وہ اور کر، پیش قربانی کی شکرگزاری کو اللہ

15	וְקָרָאֲנִי- و-مجھے-پکار	בְּדֵן- پ-دن	צָרָה- مصیبت-کے	אֲחֻלָּצֶיךָ- میں-تجھے-چھاؤں-گا	וְתִכְבְּדֵנִי- و-تو-میری-تمجید-کرے-گا
	H7121	H3117			H3513

گا۔ کرے تمجید میری تو اور گا دوں نجات تجھے میں تب پکار۔ مجھے دن کے مصیبت

16	וְלִדְרָשָׁע- و-ل-شریر-کو	אָמַר- کہتا-ہے	אֱלֹהִים- خدا	מָה- کیا	לִי- مجھے	לְסַפֵּר- ل-بیان-کرنے	חֻקֵי- میرے-احکام	וְתִשָּׂא- و-تو-نے-انہایا	בְּרִיתִי- میرا-عہد	עֲלֵי- علی
	H7563	H0559	H0430	H4100		H2706	H5375	H1285		

פִּיךָ-  
اپنے-منہ-پر  
H6310

ہے؟ حق کیا تیرا کا کرنے ذکر کا عہد میرے اور سنانے احکام میں ہے، فرماتا اللہ سے بے دین لیکن

17	וְאָתָהּ- و-تو	שְׁנֵאתָ- تو-نے-نفرت-کی	מוֹסֵר- تربیت-سے	וְתִשָּׂלֵךְ- و-تو-نے-پھینک-دیا	דְּבָרֵי- میری-باتیں	אֲחֵרֶיךָ- اپنے-پیچھے
	H8130	H4148		H7993	H1697	

ہے۔ دیتا پھینک پیچھے اپنے طرح کی کچرے فرمان میرے اور کرتا نفرت سے تربیت تو تو

18	אם- اگر	ראית ٹو-نے-دیکھا	גנב چور	ותרץ و-ٹو-نے-دوڑ-لگائی	עמו اُس-کے-ساتھ	ועם و-ساتھ	מנאפים زناکاروں-کے	חלקה: تیرا-حصہ
		<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H1590</a>	<a href="#">H7521</a>			<a href="#">H5003</a>	

بے-رکھتا رفاقت سے زناکاروں ٹو ہے، دیتا ساتھ کا اُس ٹو ہی دیکھتے کو چور کسی

19	פיד تیرا-منہ	שלחה ٹو-نے-بھیجا	ברעה ب-برائی	ולשונך و-تیری-زبان	תצמיד جوڑتی-ہے	מרמה: فریب
	<a href="#">H6310</a>	<a href="#">H7971</a>		<a href="#">H3956</a>	<a href="#">H6775</a>	<a href="#">H4820</a>

بے-رکھتا تیار لئے کے دینے دھوکا کو زبان اپنی کرتا، استعمال لئے کے کام بُرے کو منہ اپنے ٹو

20	תשוב ٹو-بیٹھتا-ہے	באתיך ب-اپنے-بھائی	תדבר ٹو-بولتا-ہے	בבן- ب-بیٹے	אמך اپنی-ماں-کے	תתן- ٹو-دیتا-ہے	דפי: طعنہ
	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H0251</a>	<a href="#">H1696</a>		<a href="#">H0517</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H1848</a>

بے-لگاتا تہمت پر بیٹے کے ماں ہی اپنی ہے، بولتا خلاف کے بھائی اپنے کر بیٹھ پاس کے دوسروں ٹو

21	אלה یہ	ועשית ٹو-نے-کیا	והחפשתי و-میں-چپ-رہا	דמות ٹو-نے-سوچا	היות- ہونا	אהיה میں-ہوں-گا	כמוך ک-تجھ-جیسا	אזכיתך میں-تجھے-ملاط-کروں-گا
	<a href="#">H0428</a>			<a href="#">H1819</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H3644</a>	<a href="#">H3198</a>

ואערךה  
و-میں-ترتیب-دوں-گا  
ליניך:  
ل-تیری-آنکھوں-کے-سامنے

ترتیب معاملہ ہی سامنے تیرے گا، کروں ملاط تجھے میں لیکن ہوں۔ جیسا تجھ بالکل میں کہ سمجھا ٹو تب رہا۔ خاموش میں اور ہے، کیا نے ٹو کچھ یہ  
گا۔سناؤں سے

22	בין- سمجھو	נא اب	זאת یہ	שכתי بھولنے-والو	אלוה خدا-کو	פן- ایسا-ند-ہو	אשרך میں-پھاڑ-ڈالوں	ואין و-نہیں	מציל: چھڑانے-والا
	<a href="#">H0995</a>	<a href="#">H4994</a>	<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H7911</a>	<a href="#">H0433</a>	<a href="#">H6435</a>	<a href="#">H2963</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H5337</a>

بجائے-تمہیں جو گا ہو نہیں کوئی وقت اُس گا۔ ڈالوں پھاڑ تمہیں میں ورنہ لو، سمجھ بات ہو، بوئے بھولے کو اللہ جو تم

23	זבח قربان-کرنے-والا	תודה شکر	יכבדני میری-تمجید-کرتا-ہے	ושם و-رکھنے-والا	דרך راہ	ארأנו میں-اُسے-دکھاؤں-گا	בנישע ب-نجات	אלהים: خدا-کی
	<a href="#">H2076</a>	<a href="#">H8426</a>	<a href="#">H3513</a>	<a href="#">H1870</a>		<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H3468</a>	<a href="#">H0430</a>

گا۔[دکھاؤں نجات کی اللہ میں اُسے چلے پر راہ ایسی سے ارادے مصمم جو ہے۔ کرتا تعظیم میری وہ کرے پیش قربانی کی شکرگزاری جو